



JUBILEE AMAAN PLAN

RETIRE TO A
CAREFREE LIFE

HBL

You work hard throughout your life to live comfortably in your retirement years. However, enjoying the post-retirement lifestyle would mean having sufficient funds in your bank account even after your regular income stops.

Jubilee Life Insurance offers **Jubilee Amaan Plan**, a unit linked whole life endowment plan especially designed to help you secure your retirement dreams. So start planning for your retirement today and pursue your long-held aspirations on retirement.

Please contact Jubilee Life Insurance designated representatives at HBL branches who will help you develop the most suitable plan for your needs. Branch details are available on www.hbl.com.

Features:

Entry Age	Min: 18 years, Max: 65 years	
Max Maturity Age	75 years nearest birthday	
Policy term	10-57 years. The policy can be maintained anywhere from 10 years to 57 years (depending on the policyholder's needs and age at the time of purchase of policy).	
Minimum Premium	Annually	PKR 18,000
	Semiannually	PKR 9,000
	Quarterly	PKR 4,500
	Monthly	PKR 1,500
Cover Multiple*	5 - 254	
Sum Assured	Regular Annualized Basic Premium x Cover multiple	
Free Look Period	Policyholder can cancel the policy within 14 days from the receipt of policy documents.	

Protection

Highly valued protection cover is offered to the nominated beneficiaries who receive benefits upon the unfortunate demise of the policyholder. Such benefits include the sum assured plus either the accumulated cash value of the funds or the premiums paid so far, whichever is higher.

Maturity of the Plan

Upon successful completion of the chosen term, the policyholder will receive the accumulated cash value of the funds invested.

If you are aged 55 years or above at maturity, you have the option to use the accumulated cash value of your fund and enroll for a monthly pension for life (determined at the time of plan maturity).

Benefits

Apart from the standard applicable benefits such as protection and investment, Jubilee Amaan Plan also gives you additional benefits, and the liberty to choose from various optional insurance benefits

based on your goals and financial capabilities.

For receiving benefits and sum assured, you can nominate an immediate family member as beneficiary.

Additional benefits

- 1. **Automatic Cover Maintenance:** After two years of paying the premium, in case you cannot meet your premium payments, you will still be eligible for the life insurance cover, as long as your plan’s cash value is sufficient to pay for charges made against your policy.

Optional Benefits

- 1. **Accidental Death Benefit:** An additional amount will be paid to the nominated beneficiaries in case of accidental death of the policyholder.
- 2. **Waiver of Premium:** Jubilee Life Insurance will pay for your future premiums from the next due date in case you are unable to maintain your current occupation or any other occupation (that can be pursued with suitable knowledge, training or education) for at least 6 months because of an illness or disability.

Investment Opportunities

1. **Premium Allocation:**

Premium allocated for your investments is provided in the table below.

1st year	2nd year	3rd year	4th year & onwards
60%	80%	90%	100%

2. **Choice of Funds for Investments:**

Jubilee Life offers you the flexibility to direct your premiums in part or whole to any of the fund(s) shown below:

Funds
Jubilee Life Balanced Fund A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
Jubilee Life Government Securities Fund A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Your Premiums, by default, will be allocated to **Jubilee Life Government Securities Fund** of the Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure.

Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life's fund(s) are published in all leading daily newspaper and available on the Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Other Information

Partial Withdrawal

Withdraw any amount against the accumulated cash value of funds, to meet a sudden need, without surrendering your policy, so long as the residual cash value of your policy after withdrawal remains greater than or equal to PKR 18,000*. Option for partial withdrawal is available after completion of two policy years and after payment of two annual policy year's premiums.

*The minimum residual cash value may be revised by Jubilee Life Insurance.

Full Policy Surrender

You have the option to surrender your policy any time after completion of two policy years and after payment of two annual policy year's premiums. On surrender you will be paid the accumulated cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash value.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Free Look Period

A free look period of 14 days is available during which you can review your policy terms & conditions and can cancel the policy if needed. Your premium will be refunded if the written request for cancellation is received within 14 days from the receipt of policy documents. Please note that Jubilee Life reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination (if any).

Combating Inflation:

In order to combat inflation, you have an option to select indexation in your policy. Selection of this option will increase your premium automatically each year by a limit specified by Jubilee Life Insurance.

However, you retain the right to cancel the indexation if you wish.

Application procedure

To apply for Jubilee Amaan Plan, you will need to submit the following completed documents to your Jubilee Life Insurance advisor at the HBL branch:

- Attested CNIC copy
- Duly filled in proposal form with signature
- Signed direct debit instructions
- Signed basic fact sheet
- Signed product introduction document
- Assessment form
- Signed sample illustration

Charges

The following charges* are applicable on the Jubilee Amaan Plan:

- An investment management charge of 1.5% p.a. of fund value deducted on the date of Valuation of the fund
- An admin fee of PKR 160 per month
- 5% bid offer spread
- Mortality charges applicable as per SECP filing.
- Rider charges, if any
- Fund Switching, PKR 500 if more than four are opted for per year
- Premium Allocation Charge: Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

*All charges can be revised by the Jubilee Life Insurance.

Disclaimer

- This product is underwritten by Jubilee Life Insurance. It is not guaranteed or insured by HBL Pakistan or its affiliates and is not a HBL Pakistan product.
- **This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).**
- The past performance of Jubilee Life Funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither Jubilee Life nor HBL Pakistan will incur any liability for the same.
- Our sales representative will provide a personalized illustration of benefits to you. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Supplementary Benefits may be available if the life assured is aged 55 years or less, nearest birthday at the time of issuance.
- Jubilee Life Insurance is the underwriter and provider of this Insurance Policy and shall be responsible for policy servicing and lodgment, processing, & settlement of claims to the

insured customer(s) or beneficiary (ies).

- Habib Bank Limited is acting as a distributor on behalf of Jubilee Life Insurance and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary (ies) or any third party.
- The investment risk shall be borne by the Policyholder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the policyholder if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- Please refer to company website for target asset mix of the underlying fund:
(<https://www.jubileelife.com/funds2/fund-manager-reports/>)

Contact details

In case of complaint or for further details, you may contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

Head Office: 74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road, Karachi, 74000, Pakistan

Tel: (021) 32120201,35205094

Fax: (021) 35610959

Email: info@jubileelife.com

Website: www.jubileelife.com

UAN: (021) 111 111 554

WhatsApp: (021) 111 111 554

Habib Bank Limited

UAN: 111-111-425

www.hbl.com

Jubilee
LIFE INSURANCE



HBL

جوبلی امان پلان
ریٹائرمنٹ کے بعد
پُر سکون زندگی

ریٹائرمنٹ کے وقت سکون سے زندگی گزارنے کے لئے آپ پوری زندگی محنت کرتے آئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ پر مستقل آمدنی بند ہونے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں مناسب فنڈز ہوں۔

جوہلی لائف پیش کرتا ہے جوہلی امان پلان، ایک ایسا پلینٹ لنک ڈانڈومنٹ پلان جسے خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے خوابوں کو تعبیر دے سکیں۔ تو آج ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے لئے پلاننگ شروع کریں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔

برائے مہربانی ایچ بی ایل کی نامزد کردہ برانچوں پر موجود جوہلی لائف انشورنس کے نمائندوں سے رابطہ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق مناسب پلان حاصل کریں۔ برانچوں کی تفصیلات www.hbl.com پر دستیاب ہیں۔

خصوصیات:

عمر	کم از کم 18 سال، زیادہ سے زیادہ 65 سال	
میچورٹی کے وقت عمر	75 سال، سالگرہ سے قریب ترین عمر	
پالیسی کی مدت	10 سے 57 سال پالیسی 10 سے 57 سال کی مدت تک کبھی بھی جاری رکھی جاسکتی ہے۔ مدت کا اختصار پالیسی ہولڈر کی ضروریات اور پالیسی خریدتے وقت کی عمر پر ہے۔	
کم از کم پرییمیم	سالانہ	18,000 روپے
	ششماہی	9,000 روپے
	سہ ماہی	4,500 روپے
	ماہانہ	1,500 روپے
کور ملٹیپل	254 to 5	
سم اشورڈ	ریگولر سالانہ بنیادی پرییمیم x کور ملٹیپل	
فری لک پییریڈ	پالیسی ہولڈر پالیسی دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے اندر پالیسی کو منسوخ کروا سکتا ہے۔	

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

تحفظ

نامزد وراثت کو انتہائی قابل قدر تحفظ پیش کیا جاتا ہے جو پالیسی ہولڈر کی ناگہانی موت کی صورت میں فوائد حاصل کرتا ہے۔ ان فوائد میں سم اشورڈ کے ساتھ ساتھ فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو یا ادائیگی پرییمیم میں سے جو بھی زیادہ ہو شامل ہوتے ہیں۔

پلان کی تکمیل:

منتخب کردہ میعاد کی کامیاب تکمیل پر پالیسی ہولڈر کو فنڈز کی مجموعی کیش ویلیو ادائیگی جائے گی۔

میچورٹی پر اگر آپ کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے فنڈز کی جمع شدہ کیش ویلیو سے اپنی زندگی بھر کے لئے ایک ماہانہ پنشن کا انتظام کر لیں۔ (جس کا تخمینہ پلان کی میچورٹی پر لگایا جائے گا)۔

فوائد:

مندرجہ ذیل تحفظ اور سرمایہ کاری جیسے عمومی لاگو فوائد کے علاوہ، جوہلی امان پلان آپ کو اضافی فوائد فراہم کرتا ہے اور اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد اور مالی استطاعت کے مطابق مختلف بیمہ فوائد میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔

سم اشورڈ اور فوائد کے حصول کے لئے آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنے وارث کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔

اضافی فوائد:

- 1۔ آٹومیک کوری میٹیننس: دو سال تک پریمیئم کی ادائیگی کے بعد اگر آپ پریمیئم ادا نہ کر پائیں تو بھی آپ لائف انشورنس تحفظ کے اہل ہوں گے، جب تک آپ کے پلان کی کیش ویلیو پالیسی چارجز کی ادائیگی کے لئے کافی ہو۔

اختیاری فوائد:

- 1۔ حادثاتی موت: پالیسی ہولڈر کی حادثاتی موت کی صورت میں نامزد کردہ ورثاء کو ایک اضافی رقم ادا کی جائے گی۔
- 2۔ پریمیئم کی چھوٹ: کسی بیماری یا معدوری کی صورت میں اگر آپ اپنا موجودہ پیشہ یا کوئی اور پیشہ (جو کہ آپ کی ذہانت، تربیت یا تعلیم کے مطابق ہو) 6 ماہ یا زائد جاری نہ رکھ سکیں تو پریمیئم کی اگلی واجب الادا تاریخ سے آپ کا پریمیئم جوہلی لائف خود ادا کرے گی۔

سرمایہ کاری کے مواقع:

- 1۔ پریمیئم ایلوکیشن: آپ کی سرمایہ کاری کیلئے مختص پریمیئم کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا سال	دوسرا سال	تیسرا سال	چوتھے سال اور آگے
60%	80%	90%	100%

- 2۔ سرمایہ کاری کے لئے فنڈز کا انتخاب: درج بالا ٹیبل کے مطابق آپ کی ادائیگیوں کو آپ کی مرضی کے فنڈز میں مختص کیا جائے گا۔

جوبلی لائف سیلینڈ فئڈ

یہ ایک ایسا فئڈ ہے جسے ایکویٹی، گورنمنٹ سکیورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج میں متوازن مختص کے ساتھ مسابقتی طویل مدتی منافع پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فئڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروفائل والے فئڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

جوبلی لائف گورنمنٹ سکیورٹیز فئڈ

یہ ایک ایسا فئڈ ہے جسے گورنمنٹ سکیورٹیز، گورنمنٹ سکیورٹیز سے متعلق آلات اور پبلک ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدتی پائیدار منافع کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فئڈ کی درجہ بندی کم رسک پروفائل والے فئڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کے پریکٹس، بطور مثال، جوبلی لائف انشورنس کے جوبلی لائف گورنمنٹ سکیورٹیز فئڈ میں مختص کیے جائیں گے۔ یہ مختلف منی مارکیٹ اور سرمایہ کاری قرضوں کی سکیورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرے کے ساتھ، درمیانی مدت سے طویل مدتی تک مسابقتی منافع پیش کرتا ہے اور اس میں ایکویٹی سکیورٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔

تاہم، آپ کے پاس اعلانیہ فارم پر دستخط کر کے ڈیفالٹ انویسٹمنٹ فئڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فئڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔

آپ کے سرمایہ کاری شدہ پریکٹس کا انتظام ماہر انویسٹمنٹ مینیجرز کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور اس کو تقویت پر پیمائش فنانشیل سکیورٹیز سے ملتی ہے تاکہ بہترین منافع کو قابل برداشت خطرے کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔ آپ کے پریکٹس منصوبے کی مدت کے دوران سرمایہ کاری پر منافع حاصل کریں گے۔ منتخب شدہ مدت کے اختتام پر، آپ کو اپنی جمع شدہ نقد قیمت یکسخت مل جائے گی۔

نوٹ: ان فئڈز کی ماحولیاتی کارکردگی لازمی طور پر ان فئڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔ جوبلی لائف کے فئڈ کی یونٹ کی قیمتیں تمام معروف روزناموں اور جوبلی لائف کی ویب سائٹ www.jubileelife.com پر شائع ہوتی ہیں۔

اضافی معلومات:

جزوی دستبرداری:

کسی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر کوئی بھی رقم نکال سکتے ہیں جب تک پالیسی کی باقی ماندہ کیش ویلیو * 18,000 روپے یا اس سے زیادہ رہے۔ جزوی دستبرداری کا اختیار پالیسی کے دوسال مکمل ہونے اور دوسالہ پریکٹس کی ادائیگی کے بعد دستیاب ہوتا ہے۔

* باقی ماندہ کیش ویلیو حد پر جوبلی لائف نظر ثانی کر سکتی ہے۔

مکمل دستبرداری:

آپ کو پالیسی کے دوسال مکمل ہونے اور دوسالہ پریکٹس کی ادائیگی کے بعد کسی بھی وقت پالیسی سے دستبرداری کا اختیار حاصل ہے۔ دستبرداری پر آپ کو آپ کے فئڈز کی کیش ویلیو کی مکمل ادائیگی کر دی جائیگی۔ بہر حال پالیسی کے ابتدائی سالوں میں دستبرداری کی صورت میں کیش ویلیو میں کمی واقع ہوگی۔

قیمتوں کے تعین کرنے کا طریقہ کار

جوبلی لائف فارورڈ یونٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی بیرونی کرتی ہے۔ یہ فئڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فئڈ میں فعال اکائیوں کی تعداد سے تقسیم کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

فری لک عرصہ:

آپ کو 14 دن کافر کی لک عرصہ دیا جائے گا جس کے دوران آپ پالیسی کی شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پالیسی منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگر پالیسی دستاویزات کی رسید کے 14 دن کے اندر تحریری درخواست موصول ہو جاتی ہے تو آپ کا پریکٹس واپس کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جوبلی لائف طبی معائنے پر ہونے والے اخراجات (اگر کوئی ہوئی تو) کی کٹوتی کی گنجائش ہے۔

افراط زر سے مقابلہ:

افراط زر سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ پالیسی میں انڈیکسیشن کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔ اس آپشن کے تحت، جوہلی لائف انشورنس کی طے کردہ حد کے مطابق پریمیم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ انڈیکسیشن کا آپشن مسترد کریں۔

پلان کے حصول کا طریقہ:

امان پلان حاصل کرنے کے لئے آپ کو ایچ بی ایل کی برانچ میں موجود جوہلی لائف کے نمائندوں کو مندرجہ ذیل مکمل شدہ دستاویزات جمع کرانے ہوں گے:

- شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی
- مکمل پروپوزل فارم بمعہ دستخط
- دستخط شدہ ڈائریکٹ ڈیٹ انسٹرکشنز
- دستخط شدہ بینک فیکٹ شیٹ
- دستخط شدہ پراڈکٹ انشورڈشن ڈاکیومنٹ
- اسسمنٹ فارم
- دستخط شدہ انسٹرکشن

چار جز:

جوہلی امان پلان پر مندرجہ ذیل چار جز* لاگو ہوں گے:

- فنڈ زویلیو کا 1.5% سالانہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج
- 160 روپے ماہانہ انتظامی فیس
- 5% بڈ آفر اسپرڈ
- ایس ای سی بی پی فائلنگ کے مطابق موٹیلٹی چارج کا اطلاق
- رائیڈ منتخب کرنے کی صورت میں لاگورائزڈ رز چارجز
- سوئچنگ / ری ڈائریکشن، 500 روپے اگر فی سال چار سے زائد منتخب کیا گیا ہو
- پریمیم ایلیکشن چارج: سالانہ پریمیم شخص کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ پریمیم کا سو فیصد سال کے لیے مختص کردہ پریمیم کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔

* جوہلی لائف انشورنس تمام معاوضوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔

اعلانات:

- یہ پراڈکٹ جوہلی لائف کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔ ایچ بی ایل پاکستان یا اس سے ملحقہ ادارہ اس سے متعلقہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پراڈکٹ ایچ بی ایل پاکستان کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔
- یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس کے دوا لگ عناصر ہیں یعنی انشورنس پروڈکشن اور انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جزو پونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔
- جوہلی لائف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی گئی یا پیش گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے۔ اس سلسلہ میں نہ تو جوہلی لائف اور نہ ہی ایچ بی ایل پاکستان پراس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔
- ہمارا سبز کارڈ نمائندہ آپ کو ذاتی انسٹرکشن فراہم کرے گا۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے انسٹرکشن میں دیئے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔
- براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کے تفصیلی جائزے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔
- پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ دار کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اسکے قریب ہو تو ضمنی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔

- جولبی لائف انشورنس اس بیمہ پالیسی کا انڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور پالیسی کی خدمت، لاجسٹک، پروسیسنگ اور انشورڈ کسٹمرز اور بینیفیشریز کے کلیم کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔
- ایجنسی ایل پاکستان، جولبی لائف کے لئے تقسیم کار کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور کسی طور پر بھی کسی شخص، بیمہ شدہ فرد یا وارث کو جوابدہ نہیں ہے۔
- سرمایہ کاری کا خطرہ پالیسی ہولڈر برداشت کرے گا اور اصل سرینڈرو بلیو اور میچورٹی و بلیو پرو جیکنڈ و بلیو سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پالیسی ہولڈر اگر پہلے سے طے شدہ فنڈ کے علاوہ کسی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
- براہ کرم بنیادی فنڈ کے ٹارگٹ ایسٹمس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

رابطہ کی تفصیلات:

شکایت اور مزید تفصیلات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جولبی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A، لالہ زارا ایم ٹی خان روڈ، کراچی، 74000، پاکستان

ٹیلی فون: (021) 32120201, 35205094

فیکس: (021) 35610959

ای میل: info@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو اے این: (021) 111 111 554

وائس ایپ: (021) 111 111 554

حبیب بینک لمیٹڈ

یو اے این: 111-111-425

ویب سائٹ: www.hbl.com